



سوال

(202) نماز عصر سے پہلے چار سنتیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا نماز عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے؟ (حافظ محمد سعید، ہری پور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سنن الترمذی (429) سنن ابن ماجہ (1161) میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر اربع رکعات" نبی ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت شواہد کے ساتھ حسن ہے۔ دیکھئے الاوسط للطبرانی (276، 275/3 ح 2601) سنن الترمذی (430) و سنن بای داؤد (1271) میں ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت ہے کہ ((رحم اللہ امر اصلی قبل العصر اربعاً)) اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے۔ اس کی سند حسن ہے، اسے ابن خزیمہ (1193) اور ابن حبان - الموارد (616) نے صحیح قرار دیا ہے۔

امام اسحاق بن راہویہ کے نزدیک یہ رکعتیں سلام کے بغیر دو تشہدوں سے پڑھنا چاہئیں تاہم حدیث ((صلوة الیل والنہار ثنی ثنی)) (سنن ابی داؤد: 1295، سنن الترمذی: 597 و سندہ حسن) کی رو سے بہتر یہی ہے کہ یہ چار رکعتیں دو دو کر کے دو سلاموں سے پڑھی جائیں۔ (شہادت سنی 2004)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 1 - کتاب الصلاة - صفحہ 419

محدث فتویٰ